

پنج گنج قادری

— اوراوقادریہ : کبریتِ احمد —

قصیدہ قطبیہ : قصیدہ غوثیہ

چل کاف



اسلامی کتب خانہ

اقبال روڈ، سیالکوٹ

ان عن اللہ اکمل سے قاری



ملنے کا پتہ —————

اسلامی کتب خانہ، اقبال روڈ

سیالکوٹ

محمد ﷺ و نصلی علی رسولہ الکریم

عرضِ ناشر

اللہ ذوالجلال کے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آلِ پاک کے
چشم و چراغ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے

اورادِ قادریہ، درودِ کبریٰ^۱، قصیدہ غوثیہ^۲،
قصیدہ قطبیہ اور چہل کاف بہت سے بزرگ
بطور وظیفہ پڑھتے ہیں

عین اتفاق ہے کہ مذکورہ وظائف کا مجموعہ پہنچ گنجِ قادریہ کے
نام سے کشمیر کا مطبوعہ نسخہ، بصیۃ السلف حضرت مولانا سید غلام محمد شاہ
صاحب قادری مدظلہ العالی نے عطا فرمایا اور ساتھ ہی اسے شائع کرنے کا ارشاد
فرمایا۔ قبلہ شاہ صاحب موصوف کا نسخہ بلا ترجمہ تھا، عوام کے فائدہ کے لئے ادارہ
نے ترجمہ شامل کر دیا ہے۔ اگر صاحب علم حضرات اس کے ترجمہ یا اصل میں کوئی غلطی پائیں
تو ہمیں اطلاع فرمائی تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔

(ادارہ)

اَزْلًا قَادِرِيَه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ (سہ بار) الَّذِیْ

میں بخشش چاہتا ہوں خدائے بزرگ سے وہ خدا

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ

کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اسکے وہ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور

اِلَیْهِ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ ط اللّٰهُمَّ اَنْتَ

میں پھرتا ہوں اسکی طرف اور سوال کرتا ہوں اس کو توبہ کا۔ اے اللہ تو

السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَیْكَ یَرْجِعُ

ہر نقصان پاک ہے اور تجھی سے مخلوق کی سلامتی ہے اور تیری سلامتی

السَّلَامُ حَیْنَ رَّبَّنَا یَا لَسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا

پھرتی ہے تو ہمیں زندہ رکھ اے ہمارے رب سلامتی کیساتھ۔ اور داخل کرہیں

دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

پہشت میں بڑا برکت والا ہے تو اے ہمارے رب اور بہت بلند

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ

ہے تو اے بزرگی اور فضل والے - اے اللہ

لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُؤْتِي نِعَمَكَ

تیرے ہی لئے تعریف ہے ایسی تعریف کہ وفا کرے تیری نعمتوں

وَيُكَافِي مَزِيدَ كَرَمِكَ أَجْدَكَ

کیسا تھا اور برابر ہی کرے تیرے کرم کی زیادتی کیسا تھا۔ میں تیری ثنا

بِحَمِيْعٍ مَخَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

کرتا ہوں تمام خوبیوں کے ساتھ جن کو میں جانتا ہوں۔

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَى جَمِيْعٍ نِعَمِكَ

اور جن کو میں نہیں جانتا اور تیری سب نعمتوں پر جن کو

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَعَلَى

میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا اور سب

كُلِّ حَالٍ يَأْمَحْوِلُ الْاِحْوَالِ حَوْلُ

حال پر اے حالات کو بدلنے والے ۔ ہماری حالت

حَالِنَا لَ اَحْسِنِ الْحَالِ بِحَقِّ

بدل دے اچھی حالت کی طرح لطیفیل

اَفْضَلِ الْمَقَالِ : اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ

افضل مقال ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی

السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ

شیطان مردود سے اللہ کے نام شروع ہو

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

بڑا مہربان رحمت والا ہے ۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک

الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ

سارے جہان والوں کا بہت مہربان رحمت والا ہے روز

يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

جزا کا مالک ۔ ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں

تَسْعِيْنَ اِقْدَانَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ

سہ سو سیدھے راستہ پر چلا

صِرَاطِ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ

الْمُضَلِّيْنَ وَاللَّهُ وَاحِدٌ

گمراہوں کا اور تمہارا معبود ایک معبود ہے

لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

اسکے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان ہے

اللَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ قائم رہنے والا

لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا فِی

ہے اسے نہ اونگھ آئے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ کون ہے

الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ

جو اس کے ہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے وہ

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ

جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور

لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ

وہ نہیں پاتے اسکے علم میں مگر جتنا کہ وہ چاہے

إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ

آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اَللّٰهُ اِلٰهٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ

اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں آئی اور وہ

الْقَيُّوْمُ مَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے تم پر سچی کتاب اتاری اگلی

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ اور اس نے اس سے پہلے

وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ

توریت اور انجیل اتاری۔

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ

لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ

الْفُرْقَانَ ؕ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا

اتارا۔ اللہ نے گواہی دی کہ اسکے سوا کوئی

إِلَهَ الْأَهْوَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأُولَئِكَ

معبود نہیں اور فرشتوں نے در عالموں نے

الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ

انصاف سے قائم ہو کر اسکے سوا کوئی

الْأَهْوَاءِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

عبارت کے لائق نہیں وہ عزت والا حکمت والا ہے

وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ

اور ہم وہی گواہی دیتے ہیں جو اللہ نے گواہی دی

بِهِ وَنَسْتَوْدِعُ اللَّهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ

اور ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں یہ شہادت

وَهِيَ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَدِيْعَةٌ

اور ہماری یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت ہے

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

بیشک دین اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي

یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے

الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ

سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ

جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے تو

تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ

ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

تَوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ

تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ

النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ

دن میں ڈالے۔ اور مردہ سے زندہ نکالے

مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ

اور زندہ سے مردہ نکالے۔ اور

الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ

جسے چاہے بے گنتی دے۔

حِسَابٍ اللَّهُمَّ ارِنَا لِقَاءَكَ

اے اللہ! ہمیں اپنا بزرگ دیدار

الْكَرِيمِ بِلَا حِسَابٍ وَلَا

عطا کر بغیر حساب اور

عَذَابٍ - سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ

عذاب کے۔ پاک ہے اللہ اور سب خوبیاں

لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور

مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ إِلَّا لِلَّهِ

اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ

وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ

اور اسکے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی (غیب بتانے والے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

پر۔ اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بھیجو۔ اے اللہ! درود بھیج ہمارے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

آقا (حضرت) محمد اپنے بندے اور

وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ

اپنے حبیب اور اپنے نبی اور اپنے رسول

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

نبی امی پر اور ان کی آل اور ان کے صحابہ پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ رِضَى

اور ان سب پر برکتیں اور سلام نازل فرما راضی ہو

اللَّهُ تَعَالَى عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی آل اور تمام

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ

صحابہ کرام سے - اور نیکی میں

التَّابِعِينَ وَتَبِعِ التَّابِعِينَ

ان کے تابعین اور تبع تابعین سے

لَهُمْ بِأِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

روز جزا تک اور

وَعَنْ سَيِّدِنَا وَسَدِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اراعنی ہو اللہ تعالیٰ، ہمارے سرور اور ہمارے

وَمُرْشِدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ

سہارا اور ہمارے مولا اور ہمارے مرشد شیخ محی الدین

أَبِي مُحَمَّدٍ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

ابو محمد شیخ عبد القادر

الْجِلَانِي الْمَكِينِ الْآمِينِ

جیلانی مکین اور امین سے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بیشک تو ہی سنا

الْعَلِيُّوسُجَّانَ رَبِّكَ رَبِّ

جانتا ہے پاک ہے تمہارا رب عزت

الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ

والا رب ان دکافروں کی باتوں سے اور سلام

عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ

سے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُمَّ إِنَّا

جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے اللہ عطا کر ہمیں

خَيْرَ الدُّنْيَا وَخَيْرَ الْآخِرَةِ

دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔

وَاصْرِفْ عَنْ شَرِّ الدُّنْيَا

اور پھیرے ہم سے دنیا کا شر

وَشَرِّ الْآخِرَةِ يَا إِلَهَ الْاَوَّلِينَ

اور آخرت کا شر اے سب اولین و آخرین

وَ الْاٰخِرِينَ يَا ذَا الْجَلَالِ

کے معبود اے عظمت اور

وَ الْاَكْرَامِ بِرَحْمَتِكَ يَا

بزرگی والے اپنی رحمت کے ساتھ

اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے

اے آنکہ توئی خدائے غوثِ ثلثین

خواجہ سیم ز تورضائے غوثِ ثلثین

از حبلہ آفاتِ نگہدار مرا

ہر دو جہاں برائے غوثِ ثلثین

یاری بکمال است شہِ جیلانی

کہ اندر کرم و لطفِ ندادر ثانی

کن باطنِ ماصاف بیکِ جلو او

آلودہ مکن با عرضِ نفسانی

اول و آخر یازدہ مرتبہ بخوانند

اول اور آخر گیارہ مرتبہ پڑھیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! اور بھیج ہمارے آقا و حضرت، محمد پر

مَطَهْرًا جَلِيلًا وَاجْمَالَ

جو مطہر ہیں جلال اور جمال الہی کے

مِزَاتِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ مَخْزِنِ

آئینہ ہیں ذات و صفات الہی کے خزانہ ہیں

الشَّاهِدَاتِ مُوَصِّلِ الْعِبَادِ إِلَى

شاہدات کے پہنچانے والے ہیں بندوں

رَبِّ الْأَرْبَابِ بِعَدَدِ كَلْبٍ

کو رب الہیوں تک اپنی تمام مخلوقات کی گنتی کے

مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مطہر ہوں اور دان پر مبرکت اور سلام نازل فرما

ذکرِ کبیرِ اہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ

اے اللہ! نازل فرما اپنا بہترین ورود گنتی زیادہ

عَدَدًا وَاَنْتَ بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا

اور بڑھا اپنی برکتوں کو ہمیشہ اور زیادہ

وَاَزْكِيْ تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَمَدَدًا

فرما اپنے خاص تحفوں کا فضل اور مدد کے

عَلَى اَشْرَفِ الْاِنْسَانِيَّاتِ

طور پر انسانیت کی بزرگ ترین حقیقت

وَمَعْدِنِ الْاِيْمَانِيَّةِ

اور ایمانی باریکیوں کی گان پر

وَطُورِ النَّجِّيَّاتِ الْإِحْسَانِيَّةِ

اور تجلیات احسانیہ کے

وَمَهْبِطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ

بزرگ پہاڑ پر اور اسرارِ رحمانیہ کے مرکزِ نزول

وَإِسْطَٰةِ عَقْدِ النَّبِيِّينَ وَ

اور انبیاء کے بار کے عمدہ جوہر اور

مُقَدِّمَةِ جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ

رسولوں کے لشکر کے پیشرو پر۔

وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ

اور تمام مخلوقات سے افضل ہستی پر وہ اٹھانے

لِوَاءِ الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَالِكِ أَرْمَةِ

والے میں عزت کا بلند ترین جھنڈا اور بزرگی کی

الشَّرَفِ الْأَسْنَى شَاهِدِ اسْرَارِ

چمکدار لگاموں کے مالک اسرارِ ازل کے ملاحظہ

الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ أَنْوَارِ السَّابِقِ

فرمانے والے اور مشاہدہ فرمانے والے سابق اول

الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ

الوار کے ، اور زبانِ قدیم کے ترجمان اور

وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ

منبع میں علم اور بردباری اور حکمتوں

وَمَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجُزِيِّ وَالْكَلْبِ

کے اور جنزی اور کلی عمدہ بھیدوں کے مظہر

وَأَنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلُويِّ

اور موجوداتِ علوی و سفلی کی آنکھ

وَالسُّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكَوْنِيِّنِ

ہیں اور دونوں جہان کے جسم کی جان

وَعَيْنِ حَيَاتِ الدَّارَيْنِ الْمَخْلُوقِ

اور دنیا و آخرت کی زندگی کی اصل میں عبودیت

بِأَعْلَىٰ رُتَبِ الْعِبَادِ دِيَّةَ الْمُحَقِّقِينَ

کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے والے اسرار ربوبیت کے

بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ صَالِحِ الْمَقَامَاتِ

حق دار برگزیدہ مقامات والے پسندیدہ

الْأَصْطَفَاءِ فَائِيَّةِ وَالْكَرَمَاتِ الْارْتَضَائِيَّةِ

کرامات والے بزرگوں کے

سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ الْأَوْصَافِ

سردار اور جمع کرنے والے

الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ

خلیل اعظم اور حبیب اکرم کے اوصاف

الْمَخْصُوصِينَ بِأَعْلَىٰ الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ

کو وہ مخصوص کیے گئے اعلیٰ مراتب اور بلند مقامات

وَالْمَوْجِدِينَ بِأَوْضَاحِ الْبِرِّ أَهْلِينَ

کے ساتھ اور ان کی تاکید کی گئی ہے روشن دہلیلوں

وَالدَّلَالَاتِ الْمَنصُورِ بِالرُّعْبِ

اور راہنمائیوں سے ان کی مدد کی گئی ہے رعب اور

وَالْمُعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ

معجزات بنے ساتھ۔ وہ جوہر میں ابدی بزرگی

الْأَبَدِيِّ وَالنُّورِ الْقَدِيمِ وَالْحَمْدِيِّ

والے اور نور قدیم محمدی سرمدی

السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِ

ہمارے آقا حضرت محمد تعریف کئے گئے ہیں۔

فِي الْإِيْجَادِ وَالْوُجُودِ الْفَاتِحِ كُلِّ

پیدائش اور ہستی میں وہ ابتداء کرنے والے ہیں۔

شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَتِ

ہر گواہ اور گواہی دینے والے کیلئے درگاہ مشاہدہ اور

الْمُشَاهَدَةِ وَالشُّهُودِ نُورِ كُلِّ

شہود میں ہر چیز کے لئے روشنی اور ہدایت

شَيْءٍ وَهَدَاهُ وَسِرَّ كُلِّ سِرٍّ وَ

میں اور جاننے والے ہیں ہر راز کے اور

سَنَاهُ الَّذِي شَقَّيْتُ مِنْهُ الْأَسْرَارُ

اس کو روشن کرنے والے آپ وہ ہیں جن سے اسرار

وَانْفَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ السِّرِّ الْبَاطِنِ

ظاہر ہوتے ہیں اور پھوٹتے ہیں ان سے انوار

وَالنُّورِ الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ

آپ پوشیدہ راز ہیں اور نور ظاہر۔ سردار کامل حجت

الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ الْآخِرِ

کے در کھولنے والے نبیوں کی مہر۔ اول آخر۔

الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْعَاشِرِ

پوشیدہ، ظاہر، سب نبیوں کے بعد آنیوالے مردوں کو اٹھانے

النَّاهِي الْأَمِيرِ النَّاصِحِ النَّاصِرِ

بدی سے منع کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے نصیحت کرنے والے

الْمُتَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَانِتِ الذَّاكِرِ

مددگار، صبر و شکر کرنیوالے، دعاؤ ذکر کرنے والے۔

الْمَاحِي الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ

کفر و شرک مٹانے والے، بزرگ غالب، حمد کرنے والے

الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ النَّاهِدِ

مومن، عبادت گزار، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تارک

الْقَائِمِ وَالْقَاعِدِ الرَّاجِعِ الشَّاجِدِ

دنیا نمازیں کھڑا ہونیوالے بیٹھنے والے رکوع و سجود کرنیوالے خدا

السَّابِعِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ

کے فرمانبردار، گواہ، اللہ کے دوست سرلہ گئے، خدا

الْبُرْهَانِ الْحُجَّةِ الْمَطَاعِ الْمُخْتَارِ

کی دلیل حجت، سب کے مالے ہوئے، مختار،

الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمُسْتَجِرِ

عاجزی و انکساری کرنیوالے، نیکوکار مدد چاہے گئے۔

الْحَقُّ الْمُبِينُ طَهْرٌ وَنَيْسٌ الْمُرْتَمِلُ

حق ظاہر، طہ اور نیسین لیا ف اوٹھنے والے

الْمَشْرِئُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَامَامِ

کبیل پوش سردار، رسولوں کے اور پرہیزگاروں کے

الْمُسْتَقِيمِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ

امام اور آخری نبی اور رب العالمین

رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى

کے محبوب برگزیدہ نبی چنے ہوئے

وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الْحَكِيمِ الْعَدْلِ

رسول منصف عادل پاکیزہ خیر دار

اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ

حکمت والے بہت دانا غالب

الْعَزِيزِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

بڑے شفیق مہربان

الْكَرِيمِ نُورِكَ الْقَدِيمِ وَصِرَاطِكَ

بزرگ تیرے قدیم نور اور تیرا راستہ

الْمُسْتَقِيمِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

سیدھا اور بتایں والے، حضرت محمد تیرے بندہ خاص اور

وَصَفِيكَ وَخَلِيكَ وَحَبِيبِكَ وَ

تیرے رسول اور تیرے برگزیدہ اور تیرے دوست اور حبیب

وَلِيِّكَ وَنَبِيِّكَ وَآمِينِكَ وَدَلِيلِكَ

اور تیرے ولی اور تیرے نبی اور امانت دار اور تیرا راستہ

وَ نَجِيكَ وَذَخِيرَتِكَ وَذَخِيرَتِكَ

دکھانے والے اور تیرے بھراڑ اور تیرے برگزیدہ تیرے ذخیرہ

وَ خَيْرَتِكَ وَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ

اور تیرے مختار اور نیکی کے پیٹھوا اور بھلائی کے

الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ النَّبِيِّ

قائد اور رسول رحمت نبی

الْأُمِّيُّ الْعَرَبِيُّ الْقُرَشِيُّ الْهَاشِمِيُّ

اُمی عربی قریشی ہاشمی

الْأَبْطَحِيُّ الْمَكِّيُّ الْمَدِينِيُّ الدِّهَامِيُّ

ابطحی مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تہامہ

الشَّاهِدِ الْمَشْرُودِ الْوَلِيِّ الْمُقَرَّبِ

والے گواہ گواہ بنائے گئے ولی خدا کے مقرب

الْعَبْدِ السُّعُودِ الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ

خوش بخت بندے خدا کے محبوب ہمارے سفارشی

الْحَسِيبِ الرَّفِيعِ الْمَلِيحِ الْبَدِيعِ

صاحبِ حسب و نسب بلند مرتبہ نادر حسن والے

الْوَاعِظِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ الْعَطُوفِ

نصیحت کرنے والے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان

الْحَلِيمِ الْجَوَادِ الْكَرِيمِ الْحَلِيمِ

تھمّل والے بڑے سخی کرم والے پاکیزہ

السُّبَّارِكُ السُّكِينُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ

برکت والے صاحب مرتبہ سچے سچے کئے گئے

الْأَمِينُ الدَّاعِي إِلَيْكَ يَا ذُنُوكَ

امانتدار دعوت دینے والے مخلوق کو تیری طرف تیرے علم سے

السِّرَاحُ السُّبُّورُ الَّذِي أَدْرَكَ

روشن آفتاب ایسے کہ انہوں نے جان لیا اصل چیزوں کو

الْحَقَائِقَ بِجُمَّتِهَا وَفَارَ وَفَاتَ

تمام و کمال اور کامیاب ہو گئے اور فوقیت لے گئے

الْخَلَائِقَ بِرُمَّتِهَا وَجَعَلْتَهُ

ساری خلقت پر اور بنایا تو نے ان کو

حَبِيبًا وَنَاجِيَةً قَرِيبًا وَأَدْنِيَةً

محبوب اور اپنا ہمساز بنایا قرب کی حالت میں اور تو نے

رَقِيبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرَّمْسَالَ وَ

انہیں اپنا قرب خاص بخشا حفاظت کرتے ہوئے اور ختم

الدَّلَالَةَ وَالْبِشَارَةَ وَالنِّذَارَةَ

کہ روی تو نے ان پر رسالت اور راہنمائی اور خوشخبری اور ڈرانا

وَالنَّبُوَّةَ وَنَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ

اور نبوت اور تو نے ان کی مدد کی رعب کے ساتھ ۔

وَظَلَمْتَهُ بِالسُّحْبِ وَرَدَدْتَهُ

اور تو نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور تو نے ان کی دعا سے

السَّمْسِ وَشَقَقْتَ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَمَتْ

سورج واپس پھیر دیا اور ان کے لئے دو ٹکڑے کر دیا جیسا کہ

لَهُ الْمُنْتَبِ وَالظُّبَى وَالذُّبَابَ وَالْجُدْمَ

کو اور تو نے گویا کیا ان کیلئے سوسمار اور بہرن، بھیڑیا، درخت

وَالذَّرَاعَ وَالْجَمَلَ وَالْحَبْلَ وَالْمَدْرَ

کاتنا اور بکری کا بازو، اور اونٹ اور مہاڑ اور ڈھیلہ اور

وَالشَّجَرَ وَالْحَجَرَ وَأَنْبَعَتْ مِنْ

درخت اور پتھر اور تو نے نکالا ان کی انگلیوں سے

أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزُّلَّالَ وَأَنْزَلَتْ

میٹھا پانی اور تو نے اتارا سفید

مِنَ الْمُرْتِنِ بِدَعْوَتِهِ فِي عَامِ

بادل سے۔ ان کی دعا کیساتھ قحط اور

الْمَحَلِّ وَالْجَدْبِ وَأَيْلَ الْعَيْثِ

خشکی کے سال میں بڑی بوندوں والا پینہ اور بارش

وَالْمَطْرِ فَأَعْشَوْشَبَ مِنْهُ الْقَفَرُ

پھر ہری بھری ہو گئی اس سے زمین خشک

وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالشَّرِبَلُ وَالرَّمْلُ

اور پتھریلی اور سخت و نرم زمین اور سرسبز ہو گئے ریگستان

وَالْحَجَرُ وَالْمَدْرُ وَأَسْرَبَتْ بِهِ

اور پتھر اور درخت اور کیڑا اور تو نے سیر کرایا

لَيَلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

ان کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد کعبہ سے مسجد

الْأَقْصَىٰ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ إِلَىٰ

اقصىٰ تک پھر سب سے بلند آسمانوں اور

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ

سدرة المنتہیٰ تک اور دو کمانوں کے ملنے

أَوْ أَدْنَىٰ وَأَرَبَّئِنَّ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ

یا اس سے بھی زیادہ قریب تک اور تو نے

وَأَنْتَ الْعَابَةُ الْقَصْوَىٰ وَأَكْرَمَتَهُ

انہیں بہت بڑی نشانی دکھائی اور تو نے انکو پہنچا دیا انتہائی

بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقِبَةِ وَالشَّافِعَةِ

بلند مرتبہ پر اور تو نے انہیں بزرگی عطا فرمائی اپنی ہمکلامی اور

وَالْمُشَاهَدَةِ وَالرُّجَايَةَ بِالْبَصِيرِ

نگہبانی سے اور قریب خاص اور حضوری کی اور اپنی زیارت

وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَىٰ وَ

کرائی آنکھوں سے واسے اللہ تو نے انہیں مخصوص فرمایا انہیں

الشفاعة الكبرى يوم الفرع

وسيلة عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کیساتھ بڑے گھبراہٹ کے

الاکبر فی المحشر وجمعت له جوامع

دن محشر میں اور تو نے جمع کئے ان کیلئے جامع کلمات

الکلیہ وجوامع اہل الحکم وجعلت

اور حکمت کے سوتی اور کر دیا تو نے ان کی

امتہ خیر الامم وغفرت له ما

امت کو سب امتوں سے بہتر اور تو نے بخش دیئے ان

تقدّم من ذنبه وما تأخّر الذی

کیوجہ سے انکوں اور پچھلوں کے گناہ . حضور وہ ہیں

بلغ الرّسالة وادی الامانة ونصح الامة

جنہوں نے تبلیغ رسالت اور امانت ادا کر دی اور امت

وحكشفت الغصة وجلي الظلمة

سے خیر خواہی کی اور غم و محزن دور فرمایا اور کفر کی تاریکی کو

وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبْدِ رَبِّهِ

روشنی سے بدل دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد فرمایا اپنے رب کی

حَتَّىٰ آتَاهُ الْيَقِينَ ۗ اللَّهُ سَوَّاعِثٌ

عبادت کی یہاں تک کہ انہیں حق یقین حاصل ہو گیا۔ اے اللہ!

مَقَامًا مَّحْمُودًا يُغِيظُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ

انہیں مقام محمود پر پہنچا کہ رشک کرینگے ان پر پہلے اور

وَالْآخِرُونَ ۗ اللَّهُ عَظِيمٌ فِي الدُّنْيَا

پچھلے۔ اے اللہ! ان کی عظمت زیادہ فرما دنیا

بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَ

میں انکا ذکر بلند کرنے اور انکا دین غالب کرنے سے اور

إِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ

ان کی شریعت پاک کو باقی رکھنے سے اور آخرت میں انکی

فِي أُمَّتِهِ وَأَجْرُكَ أَجْرَهُ وَمَثُوبَتُهُ

شفاعت قبول کرنے سے انکی امت کے حق میں اور عطا کر انکو

قَابِدُ فَضْلَهُ لِلأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

اسکا اجر اور ثواب اور ہمیشہ انکی فضیلت اولین و آخرین پر

بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيمَهُ عَلَا

مقام محمود میں اور راہنما بنا ان کو تمام

كَافَّةً مِنَ الْمُقَرَّبِينَ بِالشُّهُودِ اللّٰهِ

حاضر مقربوں کا ۔ اے اللہ! قبول

تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكُبْرَى وَارْفَعْ

فرما انکی بڑی شفاعت اور بلند فرما

دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَاعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي

ان کا عالی مقام اور عطا کر انکو منہ مانگا سوال

الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا أَتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ

آخرت اور دنیا میں جیسا کہ عطا کیا تو نے حضرت ابراہیم

وَمُوسَى ۗ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ

اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کو ۔ اے اللہ! کر انکو اپنی

عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً

بارگاہ میں اپنے بزرگ ترین بندوں سے بزرگی و کرامت

وَمِنْ أَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَ

کے طور پر اور ان سب سے بلند فرما اپنے نزدیک ان کا درجہ

مِنْ أَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ خَطَرًا وَمِنْ

اور بزرگ تر فرما ان کا قدر اپنے پاس اور زیادہ

أَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً ۝ اللَّهُمَّ

طاقتور فرما انکو اپنے دربار میں از روئے شفاعت اے اللہ

عَظِيمُ بُرْهَانُهُ وَأَبْلَجُ حُجَّتِهِ وَ

باعظمت فرما ان کی دلیل اور ظاہر فرما انکی دلیل نبوت

أَبْلَغُهُ مَأْمُورُهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ

کو اور انکی ارز و پوری فرما۔ ان کے اہل بیت اور

وَذَرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ

اولاد کے بارے میں۔ اے اللہ! پہنچا انکو اولاد اور

وَأُمَّتِهِ مَا تَقْرِبُ بِهِ عَيْنُهُ وَأَجْزِهِ عَنَّا

امت کی طرف سے وہ چیز جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی

خَيْرَ مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنِ أُمَّتِهِ

ہوں اور انکو جزائے خیر عطا فرما ہماری طرف سے جیسا دی تو نے ہر

وَأَجْزِ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا اللَّهُمَّ

ایک نبی کو اسکی امت سے اور جزائے نیک عطا کر تمام انبیاء کو، اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ! درود و سلام بھیج ہمارے سردار حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم

عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الْأَبْصَارُ وَ

جس قدر دیکھیں ان کو آنکھیں اور جتنے

سَمِعَتْهُ الْأُذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

کان ان کو سنیں اور ان پر درود و سلام بھیج

عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

انکی گنتی کے مطابق جو درود ان پر بھیجیں اور درود و سلام بھیج

عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَوْ يُصَلُّ عَلَيْهِ وَ

ان پر بشمار ان کے جو درود نہ بھیجتے ہوں اور

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ وَ

درود و سلام بھیج ان پر جیسا تو چاہے اور پسند فرمائے

تَرْضَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ

کہ ایسا درود بھیجا جائے اور درود و سلام بھیج

عَلَيْهِ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ

جیسا کہ تو نے حکم فرمایا کہ ایسا درود بھیجیں ان پر

وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يُبَغِي

اور درود و سلام بھیج ان پر جیسا کہ درود بھیجا

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جانا چاہیے۔ اے اللہ! درود و سلام بھیج

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

ان پر اور ان کی آل پر اپنی بے شمار نعمتوں اور

وَافْضَالِهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

فضلوں کے مطابق۔ اے اللہ! درود و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

ہمارے آقا حضرت محمد پر اور ان کی آل و اصحاب

وَأَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَ

پر، اور انکی اولاد اور بیٹیوں اور ان کی ذریت پر اور

عَشْرَتِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَلِذَاتِهِ

ان کے گھر والوں اور انکی عترت اور ان کے رشتہ داروں پر اور

وَأَحْبَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ

انکے خویش اور دامادوں پر اور انکے دوستوں اور فرمانبرداروں اور انکے

وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةِ أَسْرَارِهِ وَ

مددگاروں اور معاونین پر جو نگہبان ہیں انکے بھیدوں کے اور

مَعَادِينِ أَنْوَارِهِ كُنُوزِ الْحَقِّ بَيِّنَاتٍ

کانیں ہیں ان کے انوار کی اور حقیقتوں کے خزانے اور

فَهْدَاةِ الْخَلَائِقِ نُجُومِ الْإِهْتِدَاءِ

مخلوقات کے راہنما ستارے ہیں ہدایت کے

لِمَنِ اقْتَدَى بِهِ وَسَلَّمَ سَلِيمًا

ان کے لئے جو انکی پیروی کریں۔ اور سلام فرما جیسا کہ سلام

كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَارْضَ عَنْ كُلِّ

کافی ہے۔ بہت زیادہ ہمیشہ ہمیشہ اور تو راضی ہو جا تمام

الصَّحَابَةِ رِضَى سَرْمَدًا عَدَدًا

صحابہ پر ہمیشہ کی رضا مندی اپنی مخلوق

خَلْقِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَرِضَا

کی گنتی کے مطابق اور اپنے عرش کی مقدار وزن اور اپنی رضا

نَفْسِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا

مندی اور اپنے کلمات کی تعداد کے مطابق جب بھی

ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَعَقَلَ عَنِ

یاد کریں تجھ کو یاد کرنے والے اور جب بھی بھولیں

ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ صَلَوَاتُكَ تَكُونُ

تیرے ذکر کو غافل لوگ ۔ ایسا درود جو کہ تیری

لَكَ رِضَاءٌ وَ لِحَقِّهِ آدَاءٌ وَ لَنَا صَلَاحًا

رضامندی کا باعث ہونے کے حق میں ادا اور ہمارے لئے بہتری

وَ آيَةُ الْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالذَّرَجَةِ

اور عطا کر انہیں مقامِ وسیلہ اور بزرگی اور مرتبہ

الْعَالِيَةِ الرَّفِيعَةِ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ

بلند و بالا اور پہنچا انکو مقام

الْمَحْمُودِ وَاللِّوَاءِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ

محمود پر اور دے ان کو وہ جھنڈا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حوض

الْمُورِدِ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَيَّ جَمِيعِ

کہ جس پر وارد ہونے کے لوگ اور رحمت بھیج یا الہی ان کے تمام

إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

بھائیوں پر جو کہ نبی اور رسول ہیں

وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَلَائِكَتِكَ

اور ولیوں اور صالحین پر اور اپنے

الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ

مقرب فرشتوں پر اور ہمارے سردار شیخ

مُحَمَّدِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ

محمدی الدین ابو محمد عبد القادر

الْجِيلَانِي الْمَكِينِ الْأَمِينِ صَلَوَاتُ

جیلانی بیہ جو صاحب مرتبہ اور امین ہیں اللہ کی

اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

رحمتیں اور سلام اسکا ان تمام پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ! درود سلام بھیج ہمارے آقا حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد اور ہمارے سردار حضرت محمد کی آل پر

السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ الرَّحْمَةِ

جن کا نور سب خلقت سے پہلے پیدا ہوا رحمت ہے

لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ مَا مَعْنَى

تمام جہانوں کیلئے انکا ظہور۔ اپنی گذشتہ مخلوق

مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ

کی تعداد کے مطابق اور جو مخلوق باقی ہے۔ اور ان میں

مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوَةٌ تَسْعَرِقُ

سے نیک بختوں اور بد بختوں کی گنتی کے برابر ایسا درود کہ

الْعَدَّةَ وَتَحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَوَةٌ لَّا

گنتی کو گھیر لے اور احاطہ کر لے آخری حد کا ایسا درود جس کی

غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا اَمَدَ لَهَا

انتہا نہیں اور نہ نہایت اور نہ اس کا اندازہ اور

وَلَا انْقِصَاءَ صَلَوَتِكَ الَّتِي صَلَّيْتُ

نہ پورا ہونا تیرا وہ درود جو تو نے

عَلَيْهِ صَلَوَةٌ مَعْرُوفَةٌ عَلَيْهِ

بھیجا ان پر ۔ پیش کیا گیا ان پر

مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَوَةٌ

مقبول ان کے ہاں اور انہیں پیارا ہو درود

دَائِمَةٌ يَدَاؤِمِكَ وَبَاقِيَةٌ بِبِقَائِكَ

ہمیشہ رہنے والا تیرے ہمیشگی کے ساتھ اور باقی رہنے والا تیری

لَا مُنْتَهَاهَا دُونَ عِلْمِكَ صَلَوَةٌ

بقا کیساتھ تیرے علم کے سوا اسکی کوئی انتہا نہ ہو ایسا درود

تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى

جو تجھے خوش کرے اور انہیں خوش کرے اور اسکے سبب

بِهَاعُنَا صَلَوَةٌ تَمْلَأُ الْأَرْضَ

تو ہم پر راضی ہو جائے ۔ ایسا درود جو بھر دے زمین اور

وَالسَّمَاءَ صَلَوَةٌ تَسْتَجِيبُ بِهَا

آسمان کو ۔ ایسا درود کہ جس کے سبب تو قبول فرمائے

دُعَاؤَنَا وَتُزَكِّي بِنَا نَفُوسَنَا

ہماری دعائیں اور تو پاک کرے اس کیوجہ سے ہمارے نفسوں کو

وَتُحْيِي بِنَا قُلُوبَنَا وَتُحِلُّ بِنَا

اور ہمارے دل زندہ فرمائے اور حل کی جائیں جس

الْعُقَدُ وَتُفَرِّجُ بِنَا الْكُرْبُ

سے ہماری مشکلیں اور دور کی جائیں اس کے سبب سختیاں

وَيَجْرِي بِنَا لُطْفُكَ فِي أَمْرِي

اور جاری ہو اسکی وجہ سے تیری مہربانی میرے کام میں

وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَبَارِكْ لَنَا

اور تمام مسلمانوں کے کاموں میں اور ہمیشہ ہمیں برکت

عَلَى الدَّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَ

دے اور ہمیں معاف فرما اور ہدایت عطا کر

أَمْدُدْنَا وَجْعَلْنَا آمِنِينَ وَبَارِكْ

اور ہماری مدد فرما اور ہمیں اپنی امان میں کرے اور

لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا

ہمارے کام آسان کر دے ہمارے دلوں کی خوشی اور

وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ

ہمارے بدنوں کے آرام کیساتھ اور سلامتی اور عافیت بخش

فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا

ہمیں ہمارے دین اور دنیا میں اور ہماری آخرت میں

وَتَوَفَّنَا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

اور ہمارا خاتمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ

وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

پر جمع کر ہمیں حضور کے ساتھ جنت میں سوت عذاب

عَذَابٍ بَيِّنٍ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا

کے بغیر اور تو ہم سے راضی ہو جا

غَيْرِ غَضَبٍ وَلَا تَكْرِهٍ

تغیر غصہ کے اور نہ آزما ہم کو

وَ اخْتِمْ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَ

اور اپنی رحمت سے ہمارا خاتمہ بخیر کر دے

عَافِيَةً بِلَا مِحْنَةٍ أَجْمَعِينَ

اور عافیت بخش بغیر محنت کے سب کے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

پاک ہے تمہارا رب عزت والا رب

عَمَّا يَصِفُونَ وَمِبْلَاهُ عَلَى

ان کافروں کی باتوں سے اور سلام ہے

الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

پہنچنے والوں پر اور سب خوبیاں اللہ کو ہیں

رَبِّ الْعَالَمِينَ

جو سارے جہان کا رب ہے

التَّصْيُّوَةُ الطُّبِّيَّةُ

مَا فِي الصَّبَابَةِ مِنْهُلٍ مُسْعَدِبٍ

عشق کی سوزش میں کوئی گھاٹ نہیں اور نہ ٹیٹھا پانی مانگا جاتا ہے

الْأُولَى فِيهِ الْأَلَذُّ الْأَطْيَبُ

لیکن میرے لئے اس میں زیادہ لذت اور عمدگی اٹھتا ہے

أَوْ فِي الْوِصَالِ مَكَانَةٌ مَخْصُوصَةٌ

یا وصال میں ایک مخصوص مرتبہ ہے

إِلَّا وَمَنْزِلَتِي أَعَزُّ وَأَقْرَبُ

مگر میرا مقام بہت عزت والا اور قریب ہے

وَهَبْتُ لِي الْأَيَّامَ رَوْنُقَ صَفْوَاهَا

زمانے نے اپنی خالص (عمدہ) رونق (محبت) مجھے دے دی

فَحَلَّتْ مَنَاهِلَهَا وَطَابَ الْمَشْرَبُ

تو اس کے گھاٹ آباد ہو گئے اور پانی میٹھا ہو گیا

وَعَذَوْتُ مَخْطُوبًا لِّكُنْ كَرِيمَةً

اور مجھ سے خطاب کیا ہر فتاہل تعریف چیز نے

لَا هَتْدَى فِيهَا اللَّيْبُ فَيُخْطَبُ

نہیں راہ پاتا اس میں کوئی عاقل کہ اسے خطاب کیا جائے

أَنَا مِنْ رِّجَالِ الْأَخْيَافِ جَلِيسُهُمْ

میں ان مردوں سے ہوں کہ جن کے ہم نشین نہیں ڈرتے

رَيْبَ الزَّمَانِ وَلَا يَرِي مَا يَرْهَبُ

زمانہ کی گردش سے اور وہ دیکھتے ہی نہیں اس چیز کو جو خوفزدہ

قَوْمٍ لَّهُمْ فِي كُلِّ مَجْدٍ رُتْبَةٌ

ان کی قوم کے لئے ہر بلندی میں اعلیٰ مرتبہ ہے

عَلَوِيَّةٌ وَبِكُلِّ جَلِيسٍ مُرْكَبٌ

اور ہر شکر میں سوار ہونے میں

أَنَا بَلْبُلُ الْأَفْرَاحِ أَمْلَأُ دُوحَهَا

میں بچوں کی بلبلس ہوں میں نے بھر دیا ہے انکے سایہ دار درخت کو

طَرِبًا قَرَفِي الْعُلْيَاءِ بَارِزِ أَشْهَبِ

خوشی سے اور میں عالم بالا میں ایک طاقت ور بارز ہوں

أَصْحَتْ جِيُوشُ الْحَبِ تَحْتِ مَشِيئَتِي

محبت کے لشکر میری مرضی کے مطابق فرما نبردار ہیں

طَوْعًا وَمَهْمَا رُمْتُهُ لَا يَعْذِبُ

اور جیب میں اس کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ بیٹھا نہیں ہوتا

أَصْبَحْتُ لَا أَمْلَأُ وَلَا أُمْنِيَةً

میں ایسا ہو گیا ہوں کہ نہ آرزو اور تمنا ہے

أَرْجُو وَلَا مَوْعُودَةَ أَتَرْقُبُ

نہ امید نشان کا وعدہ کیا گیا ہے کہ میں انتظار کروں

مَا زِلْتُ أَرْقَعُ مِيَادِينَ الرِّضَا

میں آسودہ زندگی بسر کرتا رہا رضا کے میدانوں میں

حَتَّىٰ وَهَبْتُ مَكَانَهُ لِأَتُوهَبُ

یہاں تک کہ مجھے ایسا مرتبہ عطا کیا گیا جو کسی کو نہیں دیا جاتا

أَضْحَىٰ الزَّمَانُ كَحُلَّةٍ مَّرْقُومَةٍ

زمانہ دھاری دار چمکتے ہوئے جوڑے کی طرح ہو گیا

تَرَهُوُ وَنَحْنُ لَهَا الطَّرَازُ الْمَذْهَبُ

اور ہم اس کے لئے سنہری نقش و نگار ہیں

أَفَلَتُ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشُمُوسُنَا

پہلے لوگوں کے سورج ٹروب گئے اور ہمارا آفتاب

أَبَدًا عَلَىٰ فُلْكِ الْعُلَىٰ لَا تُخْرَبُ

بلند آسمانوں پر بے کبھی نہیں غروب ہو گا

قصیدہ غزلیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بخشنے والا مہربان ہے

سَقَانِي الْحُبُّ كَأَسَاتِ الْوَصَالِي

عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے

فَقُلْتُ لِحَمْرَتِي نَحْوِي تَعَالِي

پس میں نے اپنی شراب کو کہا کہ میری طرف لوٹ آ

سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِي فِي كَوْدِ مِسْ

پیالوں میں بھری ہوئی، وہ شراب میری طرف دوڑی

فَهَمَّتْ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمَوَالِي

پس میں اپنے احباب کے درمیان نشہ شراب سمست ہو گیا

فَقُلْتُ لَسَائِرِ الْأَقْطَابِ لَسُوًا

میں نے تمام اقطاب کو کہا کہ آپ بھی عنزم کرو

بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِحَالِي

اور میرے رنگ میں رنگے جاؤ کیونکہ آپ بھی میرے رفقا ہیں

وَهُمُّوْا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي

خوب سیر ہو کر پیو کہ تم میرے شکر ہی ہو۔

فَسَاتِي الْقَوْمِ بِالنَّوَا فِي مَلَائِي

کیوں کہ ساتی قوم نے میرے لئے لبائب جام بھر رکھا ہے

بَشْرِبْتُمْ فَضَلَّتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرَتِي

میرے مست ہونے کے بعد تم نے میری بچی کھچی شراب پی لی

وَلَا نِلْتُمْ عَلَوِي وَإِصْصَالِي

لیکن میرے بلند مرتبے اور قرب کو نہ پاسکے

مَقَامِكُمْ الْعُلَّ جَبَعًا وَالْكِرُنُّ

اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے پھر بھی

مَقَامِي فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِي

میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر اور ہمیشہ بلند رہے گا

أَنَا فِي حَضْرَتِ التَّقْرِيبِ وَحُدِيِّ

میں بارگاہِ الہی میں بیکت اور یگانہ ہوں

يُحْضِرُونِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ

اللہ تعالیٰ مجھے پھیرتا ہے اور خدا تعالیٰ مجھے کافی ہے۔

أَنَا الْبَارِئُ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ

جس طرح باز اشہب تمام پرندوں پر غالب ہے اسی طرح میں تمام

وَمَنْ ذَا فِي الرَّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِي

مشائخ پر غالب ہوں بتاؤ مردانِ خدا میں کون جسکو مجھ جیسا مرتبہ عطا کیا گیا۔

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا

میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا۔

وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي

اور میں نے خدا تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پالیا۔

كَسَانِي خِلْعَةً بِطَرَّازِ عَزْمٍ

اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت پہنایا جس پر عزت کے پیل بوٹے تھے

وَتَوَجَّيْتُ بِبَيْتِجَارِ الْكَمَالِ

اور تمام کمالات کے تاج میرے سر پر رکھے۔

وَاطَّلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راز قدیم پر مطلع کیا۔

وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُورًا

اور مجھے عزت کا ہار پہنایا اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا کیا۔

طَبَوِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُقَّتْ

میرے نام کے ڈنکے زمین و آسمان میں بجائے جاتے ہیں

وَمَشَاءُ وَمُسُّ الشَّعَادَةِ قَدْ بَدَأَ

اور نیک بختی کے نگہبان اور نقیب میرے لئے ظاہر ہوئے ہیں

أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمِخْدَعُ مَقَامِي

میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور میرا مرتبہ و مخدع، انہیں

وَأَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرَّجَالِ

مقام ہے اور میرے قدم اولسیار کی گردنوں پر ہیں۔

وَوَلَّيْتُ عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا

اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قطبوں پر حاکم بنایا ہے۔

فَحُكْمِي نَاقِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ

پس میرا حکم ہر حالت میں جاری ہے۔

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا

میں نے خدا تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا۔

كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ إِصْبَالٍ

تو وہ سب بل کہ رائی کے دانہ کے برابر تھے۔

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ

اگر میں اپنے راز کو آگ پر ڈالوں۔

لَخَبِدَتْ وَأَنْطَفَتْ مِنْ سِرِّحَالِي

تو وہ میرے راز سے بالکل سرد ہو جائے اور اسکا نام و نشان نہ رہے

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْتَ مَيْتٍ

اگر میں اپنے راز کو سداہ پر ڈالوں ۔

لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى

تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو۔

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ

اور اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈالوں ۔

لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ

تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسا ل جائیں کہ انہیں اور ریت میں فرق نہ ہو۔

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارٍ

اگر میں اپنا راز یا توجہ دریاؤں پر ڈالوں

لَصَارَ الْكُلُّ عَوْرًا فِي الزَّوَالِ

تو تمام دریاؤں کا پانی خشک ہو کر زمین میں جذب ہو جائے اور کائنات و نشاۃ ہے

وَقَامِنًا مَشْهُورًا وَدُهِورًا

پہننے اور زمانے جو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں ۔

تَمُرُّوْا وَتَقْضِيْ اِلَّا اَتَا لِيْ

بلاشک وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں -

وَ تَخْبِرُنِيْ بِمَا يَأْتِيْ وَخَبْرِيْ

اور وہ مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر دے

وَتَعْلَمُنِيْ فَاَقْصِرْ عَنِّيْ جِدًا لِّيْ

اطلاع دیتے ہیں (اے منکر کرامات) جھگڑے سے باز آؤ

بِلَادِ اللّٰهِ مُلْكِيْ تَحْتَ حَاكِمِيْ

اللہ کے تمام شہر میرا ملک ہیں اور ان پر میری حکومت ہے اور میرا وقت

وَوَقْتِيْ قَبْلَ قَلْبِيْ قَدْ صَفَا لِيْ

میرے دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا یعنی میری رومی جانے پہلے ہی صاف

مُرِيْدِيْ لَا تَخَفْ وَاِشْفَا لِيْ

تھی۔ اے میرے مرید! کسی بچل خود شریک سے نہ ڈر۔

عَزُوْمًا قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِيْ

کیونکہ میں لڑائی میں اولوالعزم ہوں اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں

مُرِيدِي لَا تَخَفُ اللَّهُ رَبِّي

اے میرے مرید! کسی سے مت ڈر اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے

عَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ السَّمَاوَاتِ

اسنے مجھے وہ بلندی عطا کی جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔

مُرِيدِي هُوَ وَطِيبٌ وَشَطْحٌ وَعَنِي

اے میرے مرید! شاعر عشق الہی ہوا اور خوش رہا اور بیباک ہوا اور خوشی کے گیت گاتا

وَأَفْعَلُ مَا تَشَاءُ فَإِلَّا سَمِعَ عَلِي

اور جو چاہے کر کیوں کہ میرا نام بلند ہے۔

رِجَالِي فِي هَوَاجِرِهِمْ حِيَامٌ

میرے آدمی سخت گرمی میں بھی روزہ دار ہیں۔

وَفِي ظُلْمِ اللَّيَالِي كَاللَّيْلِ

اور اندھیری راتوں میں مثل گوبر نور بار ہیں۔

وَكُلُّ وِلِيٍّ لَّاهُ تَدْمُورِي

ہر ایک ولی پر ایک قدم یعنی مرتبہ ہے اور میں سرکار دو عالم

عَلَى قَدَمِ السَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

کے قدم مبارک پر ہوں جو آسمان کمال کے بدر ہیں۔

أَنَا الْجَيْلِيُّ مُحَمِّي الدِّينِ اسْمِي

میں گیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے

وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجَبَالِ

اور میرے درمیان صداقت کے نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہ رہے ہیں

وَعَبْدُ الْفَتَادِ الْمَشْهُورِ اسْمِي

اور عبد الفتاد اور میرا مشہور و معروف نام ہے

وَجَدِّي صَاحِبِ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

اور میرے نانا پاک یعنی سرکار عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں

عَمَّتْ بِالْخَيْرِ

چہل کاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا مہربان ہے۔

كَفَاكَ رَبُّكَ كَوَيْكُفِكَ وَكِفَةٌ

كُفُّوا كَكَمِينَ كَانَ مِنْ لُكَاكٍ

تَكْرُكًا كَرَّا كَرًّا الْكُرِّي فِي كَبَدٍ!

تَحْكِي مُشْكِي شَكَّةً كَلُّكَ لَكَ

كَفَاكَ مَا بِي كَفَاكَ الْكَافِ كُرْبَةً

يَا كَوُكِيَا كُنْتُ تَحْكِي كَوُكِبَ الْفَلَكِ

ہارے دیگر مطبوعات

حمد و نعت اور منتقبتوں کا بالکل نازہ شاہکار

نور و نکتہ

پاکستان کے مشہور و معروف نعت گو شاعر پروفیسر فیاض کاوش صاحب کا مجموعہ کلام جس میں رب کریم کی حمد و ثناء کے نغمے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتوں کے رنگارنگ گلہ تے اور اولیائے کالمین اور علماء ربانیین کی منتقبتوں کے خوشنما ہار محبت بھرے انداز میں پیش کئے گئے ہیں۔

اس مجموعہ کی زیادہ تعریف کیا کی جائے جبکہ ہمارے ملک کے

نامور اہل قلم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب (پی ایچ ڈی)

نے اس پر تقدیم تحریر فرما کر اسے ہماری توصیف سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آج ہی

منگوا کر پڑھیے اور اپنے قلب و روح کو تسکین بخشیے۔

کتابت چھپوائی عمدہ — کاغذ سفید۔ قیمت صرف چھ روپے

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ

دو تحفے

اہل دل حضرات کے لئے

امام ابو حنیفہ کی ایک نادر یادگار
جامع شریعت و طریقت مولانا محمد اعظم رحمتی
کے حقیقت نگار قلم سے

شرح قصیدہ

امام اعظم

• بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کا گلاں
• عربی اشعار کا اردو نظم اور نثر میں بہترین ترجمہ
• قرآن و سنت اور علماء دین کے ارشادات
سے مدلل شرح۔

• ہر حقیقی کیلئے لاجواب ستاویز اور قیمتی ذخیرہ ہے۔
کاغذ اعلیٰ سفید۔ طباعت: آفٹ

ساز ۲۰ × ۳۰
۱۶

قیمت

۳ روپے

اہل ذوق حضرات کے لئے

ایک نادر تحفہ
قائد تحریک ختم نبوت علامہ ابوالحسن محمد احمد قادری
کے عشقِ مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے قلم سے

شرح

قصیدہ بردہ

• اردو زبان میں سب سے جامع اور مفید شرح
• قرآن و حدیث اور امام غزالی کی تحقیقات سے لبریز
• قصیدہ مبارکہ کے ہر لفظ کا آسان حل لغات
• بر عمل مستند واقعات اور مرزوں اشعار
• انداز بیان نہایت شگفتہ اور عمدہ۔

کتابت و طباعت: آفٹ صفحات: ۱۰۰

کاغذ: اعلیٰ قیمت جلد / ۱۸ روپے

جلد مضبوط ڈالی دار

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ

ارکان دین

۵/۲۵ روپے

درکن دین : حصہ اول،

توضیح العقائد اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

۶/۱۰ روپے ، مجلد ۲۵/۸ روپے

درکن دین : حصہ دوم،

کتاب الصلوٰۃ ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام ذہنی اور سال بھر کی نقلی نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوالہ

۵/۲۵ روپے

درکن دین : حصہ سوم،

کتاب الزکوٰۃ زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

مجلد ۵۰/۱۰ روپے

درکن دین : حصہ چہارم،

کتاب الصیام رمضان المبارک اور پورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نقل، روزوں کے فضائل و مسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

مجلد ۱۵/۱۵ روپے

درکن دین : حصہ پنجم،

کتاب الحج حج و عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے مستند فضائل و مسائل اور ہر عمل کی شرعی حیثیت اور اسرارِ محبت بھرے انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔

تمام حصے سوال و جواب کے طرز پر آسان زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔

ٹائٹل چلڈ رنگا — طباعت عمدہ، کاغذ سفید

اسلامک بک خانہ

اقبال روڈ سیالکوٹ

وصال احمدی

یہ کتاب تین رسائل کا مجموعہ ہے، ۱۱، وصال احمدی۔ اس میں امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے آخری ایام کے مستند حالات و واقعات درج ہیں۔ ایک کالم میں اصل فارسی اور دوسرے کالم میں اردو ترجمہ ہے۔ ۱۲، شجرہ عالمی نقشبندیہ۔ اس میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر مترجم وصال احمدی کے پیرو مرشد تک نقشبندی بزرگوں کے مختصر حالات، ولادت اور وصال کی تاریخیں اور جاتے مزارات درج ہیں۔ ۱۳، نسب نامہ مجددیہ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک نظم میں پیش کیا ہے قابل دید کتاب ہے۔ کتابت اور چھپوانی عمدہ۔ کاغذ سفید۔ قیمت - ۲/-

منظر العقائد

اسلامی عقائد سے واقفیت حاصل کرنا صحیح مسلمان بننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ طلبہ و طالبات اور کم فرصت والے کاروباری حضرات کے لیے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب (پی ایچ۔ ڈی) نے اس کتاب میں اسلامی عقائد بڑے آسان پیرائے میں سوال و جواب کے طرز پر مرتب فرمائے ہیں۔ خود مطالعہ فرمائیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ قیمت صرف ۲/-

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ

ارکان دین

توضیح العقائد (رکن دین : حصہ اول) ۵/۲۵ روپے

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

کتابِ سلوٰۃ (رکن دین : حصہ دوم) ۶/- روپے ، مجلد ۸/۲۵ روپے

بہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی نفلی نمازوں کے فضائل و فوائد، باحوال

کتابِ الزکوٰۃ (رکن دین : حصہ سوم) ۵/۲۵ روپے

زکوٰۃ و عشر کی فرضیت، فضائل و مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتابِ الصیام (رکن دین : حصہ چہارم) مجلد ۱۰/۵۰ روپے

رمضان المبارک اور یورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نفل، روزوں کے فضائل و مسائل اور فوائد پر جامع کتاب ہے۔

کتابِ الحج (رکن دین : حصہ پنجم) مجلد ۱۵/- روپے

حج و عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے مستند فضائل و مسائل اور ہر عمل کی شرعی حیثیت اور امر اور محبت بھرے انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔

تمام حصے سوال و جواب کے طرز پر آسان زبان میں لکھے ہوئے ہیں۔

بائٹیل چار رنگا — طباعت عمدہ ، کاغذ سفید

اسلامی کتب خانہ ○ اقبال روڈ سیالکوٹ